


# FORM OF ORDER SHEET

Court of \_\_\_\_\_

**Appeal No.** 1424/2023

S.No.	Date of order proceedings	Order or other proceedings with signature of judge
1	2	3
1-	04/07/2023	The appeal of Mr. Rehmat Gul presented today by Mr. Said Muhammad Durrani Advocate. It is fixed for preliminary hearing before touring Single Bench at Swat on
		By the order of Chairman
		
		REGISTRAR

BEFORE THE SERVICE TRIBUNAL KHYBER  
PAKHTUNKHWA AT PESHAWAR

Appeal No 1424 of 2023

Rahmat Gul..... (Appellant)

VERSUS

Superintendent Engineer C&W and others..... (Respondents)

INDEX

S #	Description	Annexure	Pages #
1.	Appeal with certificate	---	1-7
2.	Addresses of the parties & Affidavit	---	8-9
3.	Application for condonation of delay with affidavit	---	10-11
4.	Copies of relevant record	A	12-22
5.	Copies of application, suit etc	B	23-33
6.	Copies of appeal, comments & impugned order dated 26-12-2013	C	34-39
7.	Copy of appeal with relevant documents	D	40-44
8.	Copies of applications	E	45-48
9.	Wakalatnama	---	49

Appellant

*Rahmat Gul*  
Rahmat Gul  
Through Counsel

**SAID MUHAMMAD DURRANI**  
Advocate, High Court

Office: Azim Khan Plaza,  
Makanbagh, Mingora, Swat  
Cell No. 0333-9483696

①

BEFORE THE SERVICE TRIBUNAL KHYBER  
PAKHTUNKHWA AT PESHAWAR

Appeal No 1424 of 2023

Rahmat Gul son of Said Gul resident of Banjo Banda,  
Dherai, District Malakand.

.....Appellant

VERSUS

1. Superintendent Engineer C&W Saidu Sharif, District Swat.
2. Govt. of Khyber Pakhtunkhwa through Secretary C&W at Peshawar.
3. Chief Engineer (North) C&W Khyber Pakhtunkhwa at Peshawar.
4. Deputy Commissioner Malakand at Batkhela, Malakand.
5. XEN, C&W Malakand at Batkhela, Malakand
6. SDO C&W Malakand at Batkhela, District Malakand.

.....Respondents

SERVICE APPEAL UNDER SECTION 4,  
OF THE KPK SERVICE TRIBUNAL ACT,  
1974, AGAINST THE ORDER DATED 26-  
12-2013, WHEREBY THE APPELLANT  
WAS TERMINCATE FROM SERVICE.

### PRAYER IN APPEAL

On acceptance of this appeal the orders passed by the respondent department be declared as illegal, discriminatory, against law, void ab-initio and may graciously be set aside the same and the appellant may be reinstated on service with all back benefits.

Any other reliefs which are proper in the instant circumstances of the may also be granted though not specifically asked for.

Respectfully Sheweth,

- 1) That the appellant was appointed as Class-IV in the respondents department on the retired son-quota. (Copies of relevant record are attached as annexure "A").
- 2) That due to not paying the salaries to the appellant, the appellant submitted applications for releasing of salaries and also filed suit against the respondents in the Court of Senior Civil Judge Malakand, which was dismissed on 16-04-2018 due to non-jurisdiction. (Copies of application, suit etc are attached as annexure "B")
- 3) That the appellant then filed service appeal No. 701 of 2018 before this honorable tribunal regarding the releasing of his salaries, wherein the respondents

appeared and submitted their comments and took the stance regarding the dismissal of the appellant from service on 26-12-2013 and annexed the termination order in the said comments. (Copies of appeal, comments & impugned order dated 26-12-2013 are attached as annexure "C")

- 4) That the appellant submitted departmental appeal before the respondent No. 3. (Copy of appeal with relevant documents are attached as annexure "D")
- 5) That the appellant also submitted different application before the competent authority for his grievances, but not paid any heat. (Copies of applications are attached as annexure "E")
- 6) That extremely aggrieved from the orders, the appellant has no other remedy except to file instant appeal before this Honorable Tribunal on the following grounds.

**GROUND:-**

- a. That the order of dismissal of the respondents department are illegal, against the rules & regulation and exercised their power not vested to them.

- b. That in case of imposing major penalty principle of natural justice requires that a regular inquiry was to be conducted in the matter and opportunity of defense of personal hearing was to be provided to the civil servant proceeded against him otherwise the procedure against him without following the rules would be amount to condemned unheard. So, on this ground to the impugned orders regarding dismissal / removal is liable to be struck down on this score alone.
  
- c. That the penalty of dismissal / removal from service imposed upon appellant for absence from service is illegal being violative of section 7 (a).
  
- d. That the appellant were illegally treated & dismissal/ removal from service is too harsh so, the impugned order is not maintainable in the eye of law.
  
- e. That in service law concept of penalty was to make an attempt to reform the individual wrong doer but such penalty deprived the appellant from the right of earning, which defeat the reformatory concept of punishment in administration of justice so, the orders of dismissal is not sustainable on this ground too.

- f. That the inaction of respondent department is against the law, rules, because the appellant was ill and unable to perform his duty, but the respondent department is against the law & rules not reinstate the appellant.
  
- g. That the apprehended forceful premature termination of appellant is unjustified illegal. The said act of the respondents is be clear & sheer violation of the Fundamental Rights of the appellant which are envisaged and guaranteed by the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, 1973.
  
- h. That no show cause notice, charge sheet, personal hearing and no explanation been conducted / served against appellant, which is against the laid down rules and regulations and thus this act of the respondents is amounts to abuse of law.
  
- i. That the appellant has performing his duties with great zeal, zest, devotion & dedication at his best level to the entire satisfaction of his senior officials, but this aspect of the case was also over looked by the respondent department.
  
- j. That it is very much astonishing that the appellant was transferred on 08-12-2014 to the office of Deputy Commissioner Malakand while the other hand the respondents illegally

(6)

annexed the termination order with their comments, furthermore the department/ respondents promoted the appellant to the scale IV vide order dated 17-08-2015. In this situation there is no legal effect of the fake & illegal termination order issued by the respondent No. 1, hence liable to be set at naught.

- k. That the appellant regularly performing his duties with respondents and for the releasing of salary so many applications were submitted to the respondents, but even then the respondents did not say about the termination of appellant.
- l. That due to the impugned order the respondents violated the constitutional & shariah rights of the appellant, respondents also violated services law & rules and passed the bogus and illegal order on back date, which show clear mala-fide & political influence, hence liable to be set aside.
- m. That further grounds, with leave of this Honorable Court, would be raised at the time of arguments before this Honorable Court.




(7)

**Prayer:-**

Therefore in view of the above submissions, it is most humbly prayed that on acceptance of this appeal the order dated 26-12-2013 passed by the respondent department be declared as illegal, discriminatory, against law, void ab-initio and may graciously be set aside the same and the appellant may be reinstated on service with all back benefits. Any other relief which are proper in the instant circumstances of the may also be granted though not specifically asked for.

Appellant


Rahmat Gul  
Through Counsel



Said Muhammad Durrani  
Advocate, High Court

**CERTIFICATE:**

(As per directions of my client) No such like Appeal earlier has been filed by the appellant on the subject matter before this Honorable Court.



ADVOCATE

8

BEFORE THE SERVICE TRIBUNAL KHYBER  
PAKHTUNKHWA AT PESHAWAR

Appeal No. \_\_\_\_\_ of 2023

Rahmat Gul..... (Appellant)

VERSUS

Superintendent Engineer C&W and others..... (Respondents)

ADDRESSES OF THE PARTIES

APPELLANT

Rahmat Gul son of Said Gul resident of Banjo Banda,  
Dherai, District Malakand.

CNIC No:15402-2442270-5

Cell No: 0342-9640498

**RESPONDENTS**

1. Superintendent Engineer C&W Saidu Sharif, District Swat.
2. Govt. of Khyber Pakhtunkhwa through Secretary C&W at Peshawar.
3. Chief Engineer (North) C&W Khyber Pakhtunkhwa at Peshawar.
4. Deputy Commissioner Malakand at Batkhela, Malakand.
5. XEN, C&W Malakand at Batkhela, Malakand
6. SDO C&W Malakand at Batkhela, District Malakand.

Appellant  
Rahmat Gul

Through Counsel

Said Muhammad Durrani  
Advocate, High Court

(9)

BEFORE THE SERVICE TRIBUNAL KHYBER  
PAKHTUNKHWA AT PESHAWAR

Appeal No \_\_\_\_\_ of 2023

Rahmat Gul..... (Appellant)

VERSUS

Superintendent Engineer C&W and others..... (Respondents)

AFFIDAVIT

I, Rahmat Gul (appellant), do hereby solemnly affirm and declare on oath that the contents of the above titled Appeal is true and correct to the best of my knowledge and belief.

رہمت گل

DEPONENT

CNIC: 15402-24422705

ATTESTED  
Fawad Hussain Advocate  
Chief Commissioner  
District Courts Gilkeda Swat  
No. 631. D.O. 3/02/2023

19

BEFORE THE SERVICE TRIBUNAL KHYBER  
PAKHTUNKHWA AT PESHAWAR

Appeal No \_\_\_\_\_ of 2023

Rahmat Gul..... (Appellant)

VERSUS

Superintendent Engineer C&W and others..... (Respondents)

**APPLICATION FOR THE CONDONATION OF DELAY (IF ANY).**

Respectfully Sheweth :-

- 1) That the applicant is filing the above mentioned appeal before this Hon'ble court.
  
- 2) That the appellant was transferred on 08-12-2014 to the office of Deputy Commissioner Malakand while the other hand the respondents illegally annexed the termination order with their comments, furthermore the department/ respondents promoted the appellant to the scale IV vide order dated 17-08-2015. In this situation there is no legal effect of the fake & illegal termination order issued by the respondent No. 1, and the appellant regularly performing his duties with respondents and for the releasing of salary so many applications were submitted to the respondents, but even then the respondents did not say about the termination of appellant.

(11)


- 3) That the delay is not willful and deliberate on the part of applicant, hence liable to be condoned.
- 4) That valuable rights of the present application / appellant is involved in the instant matter and if the delay to file the instant appeal is not condone then the application / appellant shall suffer irreparable loss.

It is, therefore, humbly prayed, that by acceptance of this application this Hon'ble court may be please to condone the delay if any accrued in filling the reference petition.

**Applicant / appellant**

**Rahmat Gul**  
**Through counsel**

رہمت گول



**SAID MUHAMMAD DURRANI**  
**Advocate, High Court**

AFFIDAVIT

I, **Rahmat Gul (appellant)**, do hereby solemnly affirm and declare on oath that the contents of the above titled applicant is true and correct to the best of my knowledge and belief.

رہمت گول

DEPONENT

**ATTESTED**  
**Fawaz Hussain Advocate**  
 High Commissioner  
 District Courts Gilgalt Swat  
 No. 631 Date 3/12/23

5/A  
12

**OFFICE OF THE SUPERINTENDING ENGINEER**  
**C&W CIRCLE SWAT**

(Phone & Fax No. 0946-9240114)

NO. 438 /4-E, Dated: 26/09/2012.

**OFFICE ORDER.**

Under the provision of Rules-6 (b) of the District Government Rules of Business 2001, as per recommendation of Departmental Selection Committee in its meeting held on 30/08/2012, the Superintending Engineer C&W Circle Swat/Chairman DPC/DSC Malakand (Appointing Authority) vide Government of NWFP (Now KPK) Establishment & Administrative Department, Peshawar Notification No. 6/ E&AD/ 1-3/ 2007, dated 22.03.2007 is pleased to appoint Mr. Rahmat Gul S/o Said Gul R/O Banj Banda Malakand Tehsil Batkhela District Malakand (Ex-Employee Son) as DRR-Cleaner (BPS-02) (viz Rs.4900-170-10000) plus usual allowances as admissible under the rules, on the following terms and conditions:-

- 1) You will get pay at the minimum of BPS-02 (Rs.4900-170-10000) plus usual allowances as admissible under the Rules. You will also be entitled to the annual increment as per existing policy.
- 2) You shall, be governed by the Khyber Pakhtunkhwa Civil Servant Act-1973 and the laws applicable to the Civil Servants and made there under.
- 3) You shall, for all intents and purposes, be a Civil Servant, except for purpose of pension or gratuity, you will be entitled to receive such as amount contributed by you towards contributory provident Fund (C.P.F) along with the contributions made by the Government to your account in the said fund, in the prescribed manner and rates, fixed by the Government from time to time.
- 4) Your Employment in the Communication & Works Department is temporary and your services are liable to be terminated without assigning any reason at fourteen (14) days prior notice or on the payment of 14- days salary in lieu thereof 14- days pay will be forfeited.
- 5) You will, initially be on probation for period of Two years extendable up-to 3- years.
- 6) To produce a Medical Certificate fitness from Medical Superintendent Distt Head Quarter Hospital Batkhela, before reporting for duty as required under the rules.
- 7) You should to join duty at your own expenses.
- 8) You will have to serve any where in Khyber Pakhtunkhwa Province.

If you accept the post on the above terms and conditions you should report to Executive Engineer C&W Division Malakand within 14- days of the receipt of this offer and produce original Certificates in support of your qualification, domicile and health/age etc.

SUPERINTENDING ENGINEER,

Copy forwarded to the: -

1. District Coordination Officer, Malakand.
2. Executive District Officer, (Health) DHQ Hospital Malakand.
3. Executive Engineer C&W Division, Malakand.
4. Agency Account Officer, Malakand.
5. Official concerned.

For information and necessary action please.

SUPERINTENDING ENGINEER,

ATTESTED

MEDICAL CERTIFICATE

13

Name of Official

Rahmat-Gul

Father's Name.

Sajid-Gul

Caste or Race.

Muslim / Pakistani

Residence.

Dist: Malakand

Date of birth.

02/01/1985, according to his own statement as the Nil has misspelled side NO.

Exact height by measurement

13-70 (154cm - 7447270)

Personal mark identification.

Mole on throat


Signature of the official

[Signature]

Signature of head of office.

[Signature]

Seal of office



I do hereby certify that I have examined Rahmat-Gul Candidate for employment in the office of the C.R.U. Dept and can not discover that he / she had any disease communicable or other constitutional affection or bodily infirmity except NIL.

I do not consider this as disqualifications for employments in the office of C.R.U. Dept his/her age according to his/her own statement is 28 Years, and by appearance/ general development is about 28 years.

Impressions

Small Fig:	Ring Fig:	Middle Fig:	Index Fig:	Thumb.

Dated: 04/11/2012


Medical Superintendent  
D.H.O. Hospital Batacheli  
D.H.O.

NOT TO BE TRUE COPY



Ed: Park  
23.02.2018

ADIA AREA



[Handwritten signature]

66

14

# DOMICILE CERTIFICATE




TEHSIL D.A.R.  
DISTT: 3

I declare that I was born of parents who are permanently domiciled in N.W.F.P.  
Having belonged to it by birth/settled in it.

I belong by birth to Village /Mohallah Banjawa Gond (Mr. Iskand)

Tehsil Batkhele District Malakand

Ex. Dn 1/3  
Lahraabla  
23.02.2018  
RABIA ABIDAS  
Civil Judge  
Muzaffargarh



Signature of the applicant

Dated 31 / 3 / 2006

Pursuance to the declaration dated 03 / 04 / 2006 filled by Rahmat Gul  
son/daughter of Said Gul domiciled in the N.W.F.P., it is  
hereby certified that the said Rahmat Gul is born of parents who are permanent  
residents of the N.W.F.P. Having belonged to it by birth/settled in it.

I have satisfied myself from personal/my knowledge verification that the above  
declaration is true and certify.


This 3rd day of April 2006 (Super Intendant)  
SDEO(F) Batkhele

COUNTERSIGNED

DISTRICT REVENUE OFFICER


DEPUTY DISTRICT REVENUE OFFICER

Deputy District Officer  
(Judicial) Malakand  
of Batkhele



No. 2298

Dated 3/4/2006





# تصدیق

(۱) یہ کہ مسمی اسماء رحمت گلگ ولد ابنت ازوجہ سید گلگ

ساکن \_\_\_\_\_ سنجید بانڈہ حالہ لنگڑہ

کا اصلی پیدائشی باشندہ ہے جو کہ

میرے حلقہ نیابت اختیار حدود میں واقع ہے۔

(۲) یہ کہ مسمی اسماء مذکورہ قوم افغان قبیلہ \_\_\_\_\_

تعلق سے



رکھتا رکھتی ہے۔

(۳)

یہ کہ مسمی اسماء مذکورہ نے قبل ازیں کوئی ڈومیسائل سرٹیفکیٹ حاصل نہیں کیا ہے

(۴) یہ کہ سائل اسماء مذکورہ بالا ڈومیسائل سرٹیفکیٹ کا حقدار ہے۔ مذکورہ بالا کو میری ذاتی ذمہ داری پر

ڈومیسائل سرٹیفکیٹ دیا جائے۔

*[Handwritten Signature]*

دستخط:

Shafiullah  
Kissap Councillor  
Union Council, Malakand

نام:

شہینہ الزہرا

عہدہ:

کسان کونسل پوسٹ ہال لنگڑہ

رپورٹ پوسٹ کمانڈر بنا علی: گزارش صیدہ کونسل ملائند سے صلوم ہوا ہے۔ کہ مسمی رحمت گلگ ولد


سید گلگ ساکن بنجوه بانڈہ ملائند پیدائشی باشندہ ہے۔ سائل مذکورہ قوم لنگڑہ قبیلہ گجر

سے تعلق رکھتا ہے۔ سائل مذکورہ ہال چلن درست ہے۔ سائل مذکورہ کونسل پوسٹ ہال لنگڑہ

سے تعلق رکھتا ہے۔ سائل مذکورہ ہال صابانہ قومی شناختی کارڈ نمبر 5-0355628-02405

حاصل کیا ہے۔ رپورٹ عرض ہے۔

*[Handwritten Signature]*  
31/3/06



البدربک سنٹر ملائند

(18)

15

1	2	3	4	5	6	7	8
Name of Post.	Substantive Whether Substantive or officiating and whether permanent or temporary.	If officiating state (i) substantive appointment, or (ii) Whether service counts for pension under Art. 371 C.S.R.	Pay in substantive Post	Additional pay for officiating	Other emolument falling under the term "pay"	Day of Appointment	Signature of Government servant
DRR Cleaner BB-02 (4900-170-10000)				4900		01/10/2012	(E.N) / [Signature]
<del>do</del>				5070		12/13	[Signature]
<del>do</del>				5240		17/2014	[Signature]
<del>do</del>				5410		12/2014	[Signature]
BPS-02	Pay Revised			6995		17/2015	[Signature]
6330-220-12935							
BPS-04	Post Upgraded	B-2	to B-04	7030			
6730-300-15730		Next Staff	P M	300		17	[Signature]

ATTESTED



17



Recc

~~18~~

~~19~~

Said Muhammad Durran  
Advocate High Court

1	2	3	4	5	6	7	8
Name of Post	Substantive Whether Substantive or officiating and whether permanent or temporary.	If officiating state (i) substantive appointment, or (ii) Whether service counts for pension under Art. 371 C.S.R.	Pay in substantive Post	Additional pay for officiating	Other emolument falling under the term "pay"	Day of Appointment	Signature of Government servant
DRR Cleaner B8-02 (4900-170-10-00)				4900		10 01/2017	(F.N) [Signature]
<del>No</del>				5070		12 1/13	[Signature]
<del>No</del>				5240		17 2017	[Signature]
<del>No</del>				5410		12 1/2017	[Signature]
3PS-02 6330-220-12935	Pay Revised			6995		7 2015	[Signature]
BPS-04 6730-300-15730	Post upgraded	B-2 Next stage P.M		7030 300		17	[Signature]

9	10	11	12	13		14	15
Signature and Designation of the head of the officer or other attesting officer in attesting of columns 1 to 8	Date of termination or appointment	Reason of termination (such as promotion, transfer, dismissal, etc.)	Signature of the head of the office or other attesting officer	Leave		Signature of the head of the office or other attesting officer.	Reference to any recorded punishment or reward or praise of the Government Servant
				Nature and duration of leave taken	Allocation of period of leave on average pay upto four months for which leave salary is debitable to another Government		
				Period	Government to which debitable		
/							
/							
/							
/							
/							
/							
/							
/							
/							
/							

Appointed as DRA Changanj in BS-02 (4900-170-10500) vide Superintending Engineer's C/w Circle, Surat office Order No. 438/4-E dated 26-9-2012. The official has reported Arrival for duty on 4-10-2012 (Fore Noon).

*[Signature]*

*[Signature]*

Executive Engineer  
C&W Division  
Malakand

*[Signature]*  
Said Muhammad Bhatti  
Advocate High Court

Executive Engineer

Post upgraded from P-2 W B-4 vide Finance Deptt no. KC/EP/80/EP/7-20/2015 dt 17-8-2015

19

19

OFFICE OF THE SUB DIVISIONAL OFFICER C&W SUB DIVN:NO.1 MALAKAND

NO. 340 B-E

Dated Malakand the 5/1/2014

OFFICE ORDER.

The following person is hereby transferred to following place within premisses Malakand Division in the best interest of public.

S/No	Name	Transferred to
1	Mr.Rehmat Gul (R/Conductor)	Deputy Commissioner Office Malakand

SUB DIVISIONAL OFFICER  
C&W SUB DIVISION NO. 1 MALAKAND

Copy forwarded to Executive Engineer C&W Division Malakand for information please.

SUB DIVISIONAL OFFICER  
C&W SUB DIVISION NO. 1 MALAKAND


etc  
Said Muhammad Durrani  
Advocate High Court

20

میں نے اس کے بارے میں رپورٹ دی ہے۔


میں نے اس کے بارے میں رپورٹ دی ہے۔

امیر محمد




13-3-2015

The report of  
DC operator is  
based on fact



D. K. D. C.

13/3/15

etc  


Said Muhammad Durrani  
Advocate High Court

Amir Muhammad  
QUESTED

OFFICE OF THE SUB DIVISIONAL OFFICER C&W SUB DIVN: NO. 1 MALAKAND

NO. 340 13-E

Dated Malakand the 8/12/2014

21

OFFICE ORDER

The following person is hereby transferred to following place within premisses Malakand Division in the best interest of public.

S/No	Name	Transferred to
1	Mr. Rehmat Gul (R/Conductor)	Deputy Commissioner Office Malakand

SUB DIVISIONAL OFFICER  
C&W SUB DIVISION NO. 1 MALAKAND

Copy forwarded to Executive Engineer C&W Division Malakand for information please.

SUB DIVISIONAL OFFICER  
C&W SUB DIVISION NO. 1 MALAKAND

میں اس وقت کے ڈی او کے پاس سے اس کے لئے ایک رپورٹ حاصل کی ہے۔  
مذکورہ جناب کے پاس سے اس کے لئے ایک رپورٹ حاصل کی ہے۔

ایم ایچ ڈی  
13-3-2015

Said Muhammad Murram  
Advocate High Court

The report of  
DC operator is  
based on fact

The employees concerned  
already performed his  
duties with honesty at  
PA along road till now.  
8/12/2014

to DC  
13/10/2015



22

LIST OF OFFICIALS PROPOSED FOR DENGUE PREVENTATION & CONTROL PROGRAMME FOR THE YEAR 2014 IN DISTRICT MALAKAND

NO \_\_\_\_\_ /3-E

Dated Malakand the \_\_\_/04/2014

S/No	Name	Designation	Area	Focus Person
1	Mr. Gul Zamin	Road Inspector	C&W Colony	Gul Zamin
2	Mr. Siraj Mohammad	Painter	--do--	
3	Mr. Zarif Khan	Mate	Akhtar Ghundai	
4	Mr. Iqbal Zaman	Wall Man	Kandako	
5	Mr. Zahid Ali	Coolly	Batkhela	
6	Mr. Bakht Faqir	-do-	Akhtar Ghundai	
7	Mr. Asad Khan	N/Qaisd	Batkhela	
8	Mr. Khasif Khan	N/Qaisd	Batkhela	
9	Mr. Faqir Shah	N/Qaisd	Batkhela	
10	Mr. Subhan-o-Din	R/Inspector	Batkhela	
11	Mr. Abid Din	Driver	Batkhela	
12	Mr. Monin Khan	Pipe Peter	Sangina Batkhela	
13	Mr. Noor Talab	Comp:Driver	C&W Colony	
14	Mr. Rashid Khan	Work Manshi	C&W Colony	
15	Mr. Bakht Zami	N/Qaisd	C&W Colony	
16	Mr. Gul Mohammad	Coolly	Batkhela	
17	Mr. Alam Zeb	Mate	C&W Colony	
18	Mr. Usman Khan	Mali	Akhtar Ghundai	
19	Mr. Qadar Khan	Coolly	Malakand	Zoo: Zamin
20	Mr. Rehmat Gul	Roller Conductor	Malakand	
21	Mr. Sher Zaman	Pump Operater	Rang Mala	
22	Mr. Qamar Ali	Driver	Piran	
23	Mr. Taza Gul	Mate	Piran	
24	Mr. Sher Alam	Mate	Malakand	
25	Mr. Nowreen Bibi	Sweeper	Malakand	
26	Mr. Darawadan-II	Coolly	Thana	Darawadan-II
27	Mr. Fazal Mohammad	Coolly	Thana	
28	Mr. Mohammad Hussan	Coolly	Thana	
29	Mr. Fazal Sattar	Coolly	Thana	
30	Mr. Mohammad Sattar	Coolly	Thana	
31	Mr. Darawadan-I	Coolly	Thana	
32	Mr. Fazli Wadood	Coolly	Thana	
33	Mr. Mansoob Ali	Coolly	Thana	
34	Mr. Akbar Khan	B/Kandaz	Thana	
35	Mr. Ghulam Haidar	B/Kandaz	Thana	
36	Mr. Nazar Hussan	Sweeper	Thana	

Said Muhammad Barrant  
Advocate High Court

جناب سپرنٹنڈنٹ انجنئر صاحب سی اینڈ ڈی پلو سولٹ

Phone and Fax No 9240114-946

38

ایک ہی ٹاپ

درخواست برائے عطائیں تنخواہ بطالی اور رقم 4381440 فورم نمبر 26/09/2012

23

درخواست لسنسلس نوٹس ذیل کے ہیں

درخواست کنندہ عوام سٹریٹ گل ولانس گل کنگ شہ بابڈہ نے دوران گشت انسانی حقوق تعلیمی دورہ ملائکہ سے انہیں شکایت جمع کر کے ثبوت فورم اورڈر ملائکہ تقریباً 2012 سے آج تک 2016 تک ڈیوٹی پر ہے اور باقاعدہ ڈیوٹی ہے کہیں اس کے بارہور تنخواہ ملنے سے صبر خود اکتفا کریں کہ ڈیوٹی پر صبا کے فحشہ میں درج ہے جو ہرگز 6 افراد سے پر مشتمل ہے اس لیے فورم سے لے کر نیکلے لکھ کر درج ہے مفروضہ سے صبا کے لئے اس سلسلے سے ووجہ تنخواہ ملنے سے ہرگز ہی دیکھا گیا ہے اس 15 دن کے اندر جو مفروضہ عدالت کا نیکلے

ایمرو جات


انگنٹنڈر انڈسٹری حقوق پیمان ملائکہ ڈویژن  
کریسٹن ڈائریکٹوریٹ ایسٹ پیٹرنل مینجمنٹ سروسز  
حکم مورخہ 16/11/2011 سیکشن نمبر 111 تحت مشاغل کر کے دالہ

18/10/016

EXHIBIT 85

ctc  
S.m Durvani Advocates

SUPERINTENDING ENGINEER,



Recognized by The K.P.K Government of Pakistan

پکی ڈی ایچ ڈی لیبر یونین رجسٹریشن نمبر 43 لا کڈ سٹی

P.W.D Labour Union K.P.K

Reg: No: 43 C.B.A

گل زمین خان  
صدر

0333-0287000  
0333-0287000

58623

PAKISTAN WORKER FEDERATION

Head Office: C & W Colony Kandako District Malakand

24

107/2 L.U.P

Date: 16-13-2015

خدمت جناب چیف انجینئر نار تھ س ایئر ڈ بلیو ڈ پیارٹمنٹ خیبر پختونخواہ (پشاور)

عنوان دروز کنیز کی بند تخواہ جاری کرنے کا حکم

EX-16-1  
16

جناب دادا!

گزارش ہے کہ رحمت گل کو بحوالہ حکم نمبر 438 مورخہ 26-9-2012 کو بحیثیت کنیز  
DDR "ایمپلائمنٹ کنٹریول" میں بھرتی ہوا تھا۔  
یہ کہ رحمت گل کی بخش وجوہات پر محکمہ نے تخواہ بند کر دی ہے رحمت گل آج بھی DC روڈ  
لا کڈ پراجیکٹ کنڈکٹ کے ساتھ پوائی سر انجام دے رہا ہے۔  
یہ کہ آپ صاحب سے درخواست ہے کہ رحمت گل روز سید گل (کنیز) کی تخواہ دینے کے لئے  
XEN لا کڈ کو ہدایت جاری کر کے مشکور فرمائیں۔

عزیز

آپ کا دعا گو گل زمین

صدر P.W.D لیبر یونین لا کڈ اور خیبر پختونخواہ

A.O

Furnish copies to XEN and  
Mahaikand to examine and  
Report factual position with  
03 days.

11/3/2015  
(XEN)

etc  
[Handwritten signature]

25

بخدمت جناب سپرنٹنڈنٹنگ انجینئر صاحب سی اینڈ ڈبلیو ڈی پراپرٹمنٹ سپروائزر شریف سوات

عنوان: درخواست برائے ادا کیگی بند تنخواہیں

رولر کلینر بمقام ڈی سی او ملاکنڈ

جناب عالی! مودبانہ گزارش ہے کہ

(۱) - سال رحمت گل 2012ء سے بحیثیت ڈی آر آر کلینر کام کر رہا ہے

(۲) - سال آج کل ڈپٹی کمشنر ہاؤس روڈ ملاکنڈ ٹاپ پراپٹی ڈیوٹی کر رہا ہے۔

گزارش ہے کہ سال کی تنخواہیں عرصہ دراز سے بند ہیں۔ اسلئے آپ مہربانی کر کے ایکسمن صاحب ملاکنڈ کو احکامات جاری کریں کہ میری تنخواہوں کی ادائیگی کا بندوبست کریں۔

P2  
EX-10

العارض

رحمت گل ولد سید گل

DRR کلینر سی اینڈ ڈبلیو ملاکنڈ

to resolve the issue as requested  
by the applicant in view of previous  
recd. Ch. 1000  
Supreme Court judgement  
on 11/11/2011

H.C  
Tula

order direct  
to take into the  
matter and process  
according to rules  
22/2

etc  
Card m Durrani

خدمت جناب ایسین صاحب قلم تہمت مہاراجہ عتیق علی شاہ

26

EX-10

عنوان :- درخواست برائے درجہ بندی  
میں تنخواہ میں جاری کرنے کا حکم

جناب ایسین صاحب قلم تہمت  
ایسین صاحب قلم تہمت  
4389  
26.9.012  
D.D.R

یہ کہہ کر کہ تنخواہ بعض وجوہات پر کھلنے سے تنخواہ  
میں جاری ہے۔ راجت سنگھ / ایسین صاحب قلم تہمت  
روڈ مہاراجہ عتیق علی شاہ ایم اے ایف اے کے ساتھ ساتھ راجت سنگھ  
یہ کہہ کر کہ جناب سے درخواستیں جاری رہیں گے جناب افسانہ  
درجہ بندی میں تنخواہ رہنے کے ساتھ ساتھ افسانہ  
عین نواز شاہ برقی 11.9.015

Do the needful  
and reply  
D. J. Shah  
District Nazim  
Government of Punjab  
Muhammad Ali Shah  
MPA / Chirmani D.D.A.C  
Malakand  
EX-10  
11/9/12

خدمت جناب ایسین صاحب قلم تہمت  
آپ سے درخواست ہے کہ سائل کی تنخواہ جاری کر دیں  
بڑی سہولت ہوگی۔ ڈسٹرکٹ مونسٹر لوٹری کونسل مہاراجہ

Handwritten signature

Handwritten mark or signature.

اعداد من قبل سید سید سوانج صاحبہ / 96/97ء۔ ملائکہ جج قاضی شفیق

27

اعداد من قبل سید سوانج صاحبہ / 96/97ء۔ ملائکہ جج قاضی شفیق

بیت

1. سید سوانج صاحبہ / 96/97ء۔ ملائکہ جج قاضی شفیق

2. سید سوانج صاحبہ / 96/97ء۔ ملائکہ جج قاضی شفیق

3. سید سوانج صاحبہ / 96/97ء۔ ملائکہ جج قاضی شفیق

4. سید سوانج صاحبہ / 96/97ء۔ ملائکہ جج قاضی شفیق

5. سید سوانج صاحبہ / 96/97ء۔ ملائکہ جج قاضی شفیق

6. سید سوانج صاحبہ / 96/97ء۔ ملائکہ جج قاضی شفیق

7. سید سوانج صاحبہ / 96/97ء۔ ملائکہ جج قاضی شفیق

8. سید سوانج صاحبہ / 96/97ء۔ ملائکہ جج قاضی شفیق

9. سید سوانج صاحبہ / 96/97ء۔ ملائکہ جج قاضی شفیق


10. سید سوانج صاحبہ / 96/97ء۔ ملائکہ جج قاضی شفیق

11. سید سوانج صاحبہ / 96/97ء۔ ملائکہ جج قاضی شفیق

12. سید سوانج صاحبہ / 96/97ء۔ ملائکہ جج قاضی شفیق

سید

0-6  
24/4/19



CERTIFIED TO BE TRUE COPY  
EXAMINER  
DIVISION MALAKA

KHALID MANSOOR  
Civil Judge - II /  
Ilaga Qazi.  
Malakand District  
16-03-19  
Duty Judge

۲۸

بذکر مدعا علیہ من قدری نو ادا کرے۔

28


۱۷) دعویٰ در ایجاب بعد از فریجیدل حسب کتاب جو کہ بعد از تحقیق و  
حسب کتاب میرا عدویہ زرتنخواہ ۵۵۰۰۰ روپے ۲۶/۱۰۹ تا مارچ ۲۰۱۷ء اور بعد از قانونی قانونی  
میرا عدویہ

مالیت دفتر عدویہ منسب اور اعتبار کا حکم نہایت غلط معلوم ہے۔ = ۱۵۰۰۰ روپے

مالیت دفتر عدویہ منسب اور اعتبار کا حکم نہایت غلط و غلط معلوم ہے۔ = ۱۵۰۰۰ روپے

نہایت دعویٰ میں بار قانونی نوٹس منسب مدعا علیہ ۲۶/۱۰۹ ۲۰۱۷ء اور سالہ ترنا اور عدویہ بار چند  
میں بعد از انکار مدعا علیہ منسب اور عدویہ انکار مدعا علیہ

۱۸) مدعی عدویہ انکار مدعا علیہ اور عدویہ منسب اور عدویہ انکار مدعا علیہ  
صاف ہے۔



KHALID MANSOOR  
Civil Judge - II /  
Illaga Qazi,  
Malakand at Bakkheila  
۱۶-۰۳-۱۷

Duty Judge عالی: تیز رفتاری حسب ذیل حکم فرمودت ہے۔

۱) تیز رفتاری حسب ذیل حکم فرمودت ہے۔ مندرجہ عنوان پر عدویہ ہے

۲) عدویہ حکمہ W & W میں حیثیت DRR یا کنٹریو BPS سپرنٹنڈنٹ  
کنٹریو W & W نسوت نہ ہو اور کنٹریو منسب عدویہ ۴-۵-۴۳۸ صورت

۳) ۲۶/۱۰۹ رقم قدری تصنیات ہیں اور بعد از تصنیاتی عدویہ منسب W & W مالانہ

۴) حکمہ تصنیاتی میں جاری ہے اور عدویہ تصنیاتی منسب عدویہ ۲۶/۱۰۹ رقم قدری

۵) تیز رفتاری منسب عدویہ تصنیاتی منسب عدویہ (EX-Employee Son) کے نسبت عام

EXAMINER  
DISTRICT JUDGE  
MALAKAND

29

M. I. in MANSOOR  
Civil Judge - II  
Illage: Qazi,  
Malakand at Bajkaid

قواعد مندرجہ مضامین کے جاریہ خیالی ہے اور اینڈ ٹیوٹریل 26/12/09 سے لکھنا ہونا ہے

ایمانداری اور اس میں طرفیت سے اس انجام دے رہا ہے اور اینڈ ٹیوٹریل میں کوئی ترمیم نہیں

انسی کی ہے

لیکن یہ امر عدلیہ عزیز فائز سے لکھا دیکھا ہے۔ ما عدلیہ کے والدین عزیزان کے لیے عدلیہ کے

جاریہ اور بیوی زندگی گزار رہے ہیں اور چھوٹا سا لاکھ جو عدلیہ کے ہاتھوں میں ہے۔ عدلیہ کے


جاریہ خیالی ہے 26/12/09 سے لکھنا ہونا ہے اس وقت عدلیہ کے کورٹ کے قاضی اینس دیاجے

ما عدلیہ کو یہی کام مصلحتوں کا سامنا ہے اور کھدیلوہ ضروریات اور سودا سارے واسطے

تختیواری عموماً کا لکھنا اور لکھنا روپے کا مقررہ فرسٹ کلاس ہے۔ ما عدلیہ کے عدلیہ کے

بیلنگ 26/12/09 سے 7.17.03 کو عدلیہ کے حساب کتاب کے بارے میں بسلسلہ تختیواری وغیرہ

ختمنا بھی رہے بنتا ہے۔ عدلیہ کے عدلیہ کے عدلیہ کے عدلیہ کے عدلیہ کے عدلیہ کے



BP 342 Post Office, Bajkaid, Malakand

عدلیہ کے عدلیہ کے عدلیہ کے عدلیہ کے عدلیہ کے عدلیہ کے عدلیہ کے

عدلیہ کے عدلیہ کے عدلیہ کے عدلیہ کے عدلیہ کے عدلیہ کے عدلیہ کے

عدلیہ کے عدلیہ کے عدلیہ کے عدلیہ کے عدلیہ کے عدلیہ کے عدلیہ کے

عدلیہ کے عدلیہ کے عدلیہ کے عدلیہ کے عدلیہ کے عدلیہ کے عدلیہ کے

عدلیہ کے عدلیہ کے عدلیہ کے عدلیہ کے عدلیہ کے عدلیہ کے عدلیہ کے

عدلیہ کے عدلیہ کے عدلیہ کے عدلیہ کے عدلیہ کے عدلیہ کے عدلیہ کے

عدلیہ کے عدلیہ کے عدلیہ کے عدلیہ کے عدلیہ کے عدلیہ کے عدلیہ کے

عدلیہ کے عدلیہ کے عدلیہ کے عدلیہ کے عدلیہ کے عدلیہ کے عدلیہ کے



۱۰

بابت وادانہ تیز رفتاری تنخواہ جاسکے E.A.N.C. بھجائیے۔ مقررہ ضمیمہ میں مقررہ عاظمیٰ کے لئے  
کا جواب تھا کہ وادانہ تیز رفتاری (مقررہ ضمیمہ میں) کے لئے وادانہ تیز رفتاری کے لئے

S.A. Com.

یہ معاملہ کی نسبت نذر تنخواہ میں وادانہ تیز رفتاری کے وقت وادانہ تیز رفتاری کے لئے

30

چیف منسٹر جنرل گورنر گورنر 30/11/2013 سپرنٹنڈنٹ ایگسٹریٹس سلاک C سوانت مور 15/11/19

و 12/2 ڈپٹی چیف منسٹر جنرل گورنر جنرل ایگسٹریٹس 103/05/06 دہلی سوانت مور

تنخواہ جاسکے E.A.N.C. مور 11/9/05 اور 20/11/2016 ارسال شدہ ایک مقررہ عاظمیٰ کے لئے

وادانہ تیز رفتاری کے لئے ایجنسی کے ذریعے اور اس کے تحت جو تیز رفتاری کے لئے عاظمیٰ کے لئے

اصول کے تحت تیز رفتاری کے لئے عاظمیٰ کے لئے باوجود اس کے تیز رفتاری کے لئے وادانہ تیز رفتاری کے لئے

مقررہ عاظمیٰ کے لئے ایجنسی کے ذریعے اور اس کے تحت جو تیز رفتاری کے لئے عاظمیٰ کے لئے

19

ALID MANSOOR  
Civil Judge - III  
Illaga Qazi,  
Ilakand at Bahawalpur  
Duty Judge



مقررہ عاظمیٰ کے لئے ایجنسی کے ذریعے اور اس کے تحت جو تیز رفتاری کے لئے عاظمیٰ کے لئے

مقررہ عاظمیٰ کے لئے ایجنسی کے ذریعے اور اس کے تحت جو تیز رفتاری کے لئے عاظمیٰ کے لئے

مقررہ عاظمیٰ کے لئے ایجنسی کے ذریعے اور اس کے تحت جو تیز رفتاری کے لئے عاظمیٰ کے لئے

مقررہ عاظمیٰ کے لئے ایجنسی کے ذریعے اور اس کے تحت جو تیز رفتاری کے لئے عاظمیٰ کے لئے

مقررہ عاظمیٰ کے لئے ایجنسی کے ذریعے اور اس کے تحت جو تیز رفتاری کے لئے عاظمیٰ کے لئے

مقررہ عاظمیٰ کے لئے ایجنسی کے ذریعے اور اس کے تحت جو تیز رفتاری کے لئے عاظمیٰ کے لئے

CERTIFIED TO BE TRUE COPY  
EXAMINER  
SE SIGNS DIVISION MALAKAND

Handwritten notes and signatures at the bottom right, including a date 15/11/2013 and a signature.

بعدالت رابعہ عباسی سول جج/ علاقہ قاضی-1 ملاکنڈ بہ مقام بٹ نیلہ

مقدمہ نمبر 54/1 سال 2017، تاریخ رجوعہ 24-03-2017

تاریخ فیصلہ 16-04-2018

(مدعی)

بنام

- 1- سیکرٹری سی اینڈ ڈبلیو، خیبر پختونخواہ بہ مقام پشاور، صوبہ خیبر پختونخواہ۔
- 2- چیف انجینئر سی اینڈ ڈبلیو، خیبر پختونخواہ بہ مقام پشاور، صوبہ خیبر پختونخواہ۔
- 3- سپرنٹنڈنٹ انجینئر سی اینڈ ڈبلیو سید شریف، ضلع سوات۔
- 4- ایس ڈی او سی اینڈ ڈبلیو ملاکنڈ بہ مقام بینڈاز ضلع ملاکنڈ۔
- 5- ایکسٹینس سہ سی اینڈ ڈبلیو ملاکنڈ بہ مقام بہ مقام بینڈاز ضلع ملاکنڈ۔
- 6- ڈپٹی کمشنر ملاکنڈ بہ مقام ملاکنڈ، ضلع ملاکنڈ۔

..... (مدعا علیہم)

دعوئی استقر ارحق وغیرہ

یکطرفہ فیصلہ

16-04-2018

مختصر حالات مقدمہ کچھ یوں ہیں کہ دعوئی ہذا منجانب مدعی برخلاف مدعا علیہم برائے استقر ارحق ہدی مراد اڑکی کہ مدعی بمطابق دستاویزات احکامات بمورثہ 26/09/2012 سیریل حکم نمبر 438 محکمہ سی اینڈ ڈبلیو میں قانونی ملازم ہے اور سرکاری نوکری کے جملہ مراعات کا حقدار ہے اور مدعا علیہم پابند ہیں کہ وہ جملہ مراعات بشمول تنخواہ جات مدعی کو ادا کریں اور اس میں ہر قسم کی رکاوٹ لیت و لعل سے باز و منح رہیں۔ اسی طرح مدعی نے برخلاف مدعا علیہم دعوئی ہذا کے جز "ب" میں صدور حکم امتناعی دوا می و تاکید کی جبکہ جز "د" میں دعوئی دلا پانے کی بھی

استدعا کی۔

(جاری)



D. Subbasi  
RAB 6-04-2018  
Civil Judge (I) Peshawar  
Peshawar

CERTIFIED TO BE TRUE COPY  
EXAMINER  
SESSIONS  
MALAKAND

مدعا علیہم کو حسب ضابطہ سن کیا گیا جن کیخلاف مورخہ 26/04/2017 کو بوجہ غیر حاضری یکطرفہ

کارروائی عمل میں لائی گئی۔ بعدہ مقدمہ میں یکطرفہ شہادت قلمبند ہو کر یکطرفہ بحث سماعت شد اور مسل ملاحظہ شد۔

اپنے موقف کو ثابت کرنے کیلئے مدعی نے زبانی اور دستاویزی شہادت/شہادتوں کا سہارا لیا ہے۔ زبانی

شہادت میں مدعی رحمت گل کا بیان بطور PW-1، بیان مصوب شاہ بطور PW-2، بیان سید گل بطور

PW-3 جبکہ بیان گل زمین بطور PW-4 یکطرفہ طور پر قلمبند شد۔ اسی طرح دستاویزی شہادتوں میں سے مدعی نے

نقل آفس آرڈر بابت تعیناتی مورخہ 26/09/2012، Ex: PW-1/2، میڈیکل سرٹیفکیٹ نقل Ex:

PW-1/5، AD کارڈ و رجسٹری PW-1/6 و Ex: PW-1/7، تصاویر بمقام DC آفس ملاکنڈ

Ex: PW-1/8، حاضری رجسٹر مشتمل بر دو صفحات Ex: PW-1/9 اور نوٹس Ex: PW-1/10 کو بھی


شامل مسل کیا۔ مذکورہ شہادتوں سے موقف مدعی کی تائید تو ہوتی ہے۔ تاہم ان حقائق سے ہٹ کر انتہائی قابل ذکر امر

یہ ہے کہ مدعی نے دعویٰ ہذا بابت ادا کی گئی مراعات اور ملازمت وغیرہ تو دادر کیا ہے تاہم مدعی کے عرضید دعویٰ میں

اٹھائے گئے نکات عدالت حضور کے اختیار سماعت میں نہیں آتے۔ کیونکہ آئین پاکستان آرٹیکل (3) 212 کے

تحت عدالت ہذا کو سروس معاملات کے نسبت اختیار سماعت حاصل نہ ہے اور یہ اختیارات صرف سروس ٹریبونل کو

حاصل ہیں۔ (1990 SCMR790)



دریں حالات دعویٰ مدعی بوجہ عدم اختیار سماعت خارج کیا جاتا ہے۔ مدعی کو چاہیے کہ وہ اس نسبت مجاز

فورم یعنی سروس ٹریبونل سے رجوع کریں۔ خرچہ بذمہ مدعی رکھا جاتا ہے۔

مسل بعد از تکمیل و ترتیب داخل دفتر ہونے۔



(ڈی جی) (ڈی جی)

سول جج اول / علاقہ قاضی، ملاکنڈ

بمقام بٹ جیلہ


حکم سنایا گیا

16-04-2018

سرٹیفکیٹ

تصدیق کی جاتی ہے کہ فیصلہ ہذا کی دو (2) صفحات پر مشتمل ہے جس کے ہر صفحہ پر بعد از ضروری تصحیح میرا دستخط درست

طور پر ثبت ہے۔




(ڈی جی) (ڈی جی)

سول جج اول / علاقہ قاضی، ملاکنڈ

بمقام بٹ جیلہ

Civil Judge, Malakand

Malakand



مدعی حاضر۔

بروز کی تفصیلی کی طرف فیصلہ امروزہ مشتعل برود (2) صفحات دعویٰ مدعی خارج شد۔ خرچہ بذمہ مدعی رکھا جاتا ہے۔

مسل بعد از تکمیل وترتیب داخل دفتر ہوئے۔


(ذرا لہجہ عجیبی)

سول جج / علاقہ قاضی - 1، بٹ خیلہ

حکم سنایا گیا



16-04-2018

رقم	خرچہ مدعا علیہ	نمبر شمار	رقم	خرچہ مدعی	نمبر شمار
—	جواب دعویٰ	1	—	عرضید دعویٰ	1
—	طلبانہ	2	—	طلبانہ	2
—	مختیار نامہ	3	—	مختیار نامہ	3
—	وکالت نامہ	4	—	وکالت نامہ	4
—	مختنانہ وکیل	5	—	مختنانہ وکیل	5
—	کورٹ فیس	6	—	کورٹ فیس	6
—	دیگر متفرق	7	135/-	متفرق	7
—	ٹوٹل		135/-	ٹوٹل	



آج بتاریخ 16-04-2018 کو بہ ثبت دستخط میرے و مہر عدالت سے جاری شد۔

(ذرا لہجہ عجیبی)  
سول جج / علاقہ قاضی - 1، بٹ خیلہ



NO OF APPLICATION.	1539
DATE OF APPLICATION.	18-4-18
ADVANCE FEE.	—
DATE OF COMPLETION.	27-4-18
NO OF PAGES.	02 pages
COURT FEE.	2/-
URGENT FEE.	—
NAME OF COPYIST.	Fida Hussain
DATE OF DELIVERY.	27-4-18

34

BEFORE THE KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICE TRIBUNAL,  
PESHAWAR.

Service Appeal No 701 /2018



Khyber Pakhtunkhwa  
Service Tribunal

Diary No. 735

Dated 18-5-2018

Rehmat Gul S/O Said Gul R/O Banjaw Banda Raqba Dheri District Malakand.

V  
erses

1. Secretary C&W Khyber Pakhtunkhwa Peshawar.
2. chief Engineer C&W Khyber Pakhtunkhwa Peshawar.
3. SDO C&W Malakand at Batkhela District Malakand.
4. Supraindent Engineer C&W Saidu Sharif District Swat.
5. XEN, C&W Malakand at Batkhela District Malakand.
6. Deputy Commissioner Malakand at Batkhela District Malakand.

Filed Monday  
18/5/18  
Registrar

**Appeal Under section # 4 of the Khyber Pakhtunkhwa Services Tribunal Act 1974 against the illegal/unlawful Action/Act of the Respondents. Where by the Respondents have withheld the salary of the Appellant after joining his service as DRR cleaner in the Respondents Department.**

Re-submitted 19-day  
and filed.

ATTESTED

Khyber Pakhtunkhwa  
Service Tribunal

35

2

**Prayer:**


On acceptance of the instant service appeal in hand the illegal/unlawful Action/Act of the Respondents may please be set aside and release the withheld salaries of the Appellant by the Respondents with all the back benefits.

Respectfully Sheweth:

The Appellant humbly submit as under;

**ON FACTS:**

1. That the appellant was appointed as DRR Cleaner in BPS-02 by the Superintendent Engineer C&W Circle office Swat vide office Order No.438/4-E dated 26/09/2012. (Copy of the Appointment Letter is attached as annexure "A").
2. That the appellant after appointing as a DRR cleaner was performing his duty with great honesty and was later on promoted to BPS-04 by the Finance department vide office order No. KC/FD/SO FR/7-20/2015, Dated 17/08-2015. (Copy of the post upgraded letter is attached as annexure "B").
3. That the appellant time and again approached the respondents and submitted application to the respondents to pay his pending salaries but all in vain. (Copy of the application is attached as Annexure "C").


ATTESTED  
  
Khuda Bakhsh Khwaja  
Secretary  
Peshawar

36

4. That on dated 26/12/2103 the respondents issued a fake letter against the appellant in which the appellant was ceased to be a Govt. servant while on other side the appellant was transferred to the office of the Respondent No.6 vide office order No.240/3-E, Dated 08/12/2014. (Copy of the Transferred order is attached as annexure "D").
5. That the name of the appellant was in the list of officials who were proposed for Dengue prevention & control Programmed for the year 2014, in District Malakand vide Office Order No. \_\_\_3-E, Dated 04/2014. (Copy of the List of Officials is attached as Annexure "E" )
6. That being aggrieved of the illegal/unlawful act of the respondents the appellant approached to this service tribunal on inter alia, grounds.

**GROUND:**

- A. That the illegal/unlawful Action/Act of the respondents by not paying salaries to the plaintiff is against the law, natural justice and Rules of the services Act, and therefore liable to be vacated.
- B. That the respondents got no jurisdiction to deprive the petitioner from his legal right to pay him all his salaries and benefits as a civil servant.
- C. That as per Article 25 of the constitution of 1973 of Islamic republic of Pakistan, there shall be no discrimination in between the citizen of Pakistan.
- D. That the appellant is performing his duty as DRR cleaner from almost seven years then how could appellant be deprived from paying his salaries and all back benefits without prescribed procedure.

ATTESTED  
  
EXAMINER  
Khyber Pakhtunkhwa  
Service Tribunal  
Peshawar

**BEFORE THE KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICE TRIBUNAL PESHAWAR**

Service Appeal No.701/2018

37

Rehmat Gul S/O Said Gul  
R/O Banjaw Banda Raqba dheri District Malakand

(Appellant)....

V/s

Secretary Communication & Works Department  
Peshawar & others

(Respondents)....

**PARAWISE COMMENTS ON BEHALF OF RESPONDENT NO.1 TO 6**

Respectfully Sheweth,

**Preliminary Objections:-**

1. That the appeal is not maintainable in the present form.
2. That the appellant has no cause of action and locus standi.
3. That the appeal is time barred.
4. The appellant has deliberately concealed the important material and rules in this case from this Hon'able Tribunal.
5. That the appellant is estopped by his own conduct to file the instant appeal.

**FACTS:-**

1. Pertains to record, needs no comments.
2. Incorrect, the appellant submitted his arrival report but physically did not obey the orders and remained absent from official duty. The appellant was directed to attend the office / duty immediately vide Executive Engineer C&W Division Malakand letter No.8045-E dated 20-11-2012 & letter No.895/5-E dated 11-12-2012 (Annex I & II). However, after investigation through reliable source, the appellant was found that he has gone abroad (Annex-III). So far the promotion of the appellant is concerned, in this regard it is clarified that the Department has never recommended him for promotion nor issued his promotion Notification as attached with Service Appeal, hence the same found fake and bogus.
3. Incorrect, as explained in Para-2 above. Moreover the appellant has not submitted any medical certificate at the time of his arrival report, rather the concerned office processed

*ci*  
**Said Muhammad Durrani**  
Advocate High Court



38


2


4. Incorrect, the appellant was proceed under Rule-9 of (E&D Rules) 2011 and after fulfillment of all codal formalities the termination order of appellant issued by the Department (Annex-IV). Moreover the office order No. 240/3-E dated 08-12-2014 erroneously issued and immediately the same was withdrawn vide Sub Divisional Officer letter No.349/3-E dated 09-12-2017 (Annex-V).
5. Pertains to record, hence no comments.
6. The respondents treated with the appellant in accordance with law / rules / policy interalia with the following grounds:-


**GROUND:-**


- A. Incorrect. The appellant was processed purely in light of the rules/ law.
- B. Incorrect, as explained in Para-3 of the Facts above.
- C. Incorrect. There is no discrimination and no violation of rights of the appellant was done.
- D. Incorrect. As expressed in preceding Para-2 of the facts, the appellant was treated within the prescribed procedure.
- E. Incorrect, as explained in Para-2 of facts.
- F. Incorrect, no violation of constitution of Islamic Republic of Pakistan 1973 was made.
- G. Incorrect, as explained in Para-4 of the facts.
- H. Incorrect, as explained in Para-4 of the facts.
- I. The respondents seek permissions of this Hon'able Tribunal to rely additional grounds at the time of arguments.


In view of the above, it is humbly prayed that the instant Service Appeal which is not based on facts may please be dismissed with cost.


  
Secretary to Govt of  
Khyber Pakhtunkhwa  
C&W Department  
(Respondent No.1)


  
Deputy Commissioner  
Malakand  
(Respondent No.6)

  
Executive Engineer,  
C&W Division Malakand  
(Respondent No.5)

  
Chief Engineer (North)  
C&W Department  
(Respondent No.2)


  
Said Muhammad Durram  
Advocate High Court

  
Superintending Engineer  
C&W Circle Swat  
(Respondent No.4)

  
Sub Divisional Officer  
C&W Division Malakand  
(Respondent No.3)

39

17



OFFICE OF THE SUPERINTENDING ENGINEER  
C&W CIRCLE SWAT

(Phone & Fax No. 0946-9240114)

NO. 1396 / 4-E, Dated: 26 / 12 / 2013.

To

The Executive Engineer,  
C&W Division, Malakand. ✓

Subject: APPOINTMENT OF DRR CLEANER (BPS-02).

Ref: Your letter No.150/5-E, dated 05-12-2013.

It is very much disappointing to note that after appointment on 26-09-2013 the Cleaner Mr. Rehmat Gul was proceeded abroad on 01-10-2012 and remained absent upto 06-09-2013 about more than 11 (Eleven Months) during the probation period without any permission of the competent authority / Leave sanction. Nor any action has been taken by your office neither the case about his long absence during the probation period reported to this office.

Therefore due to long absence and going abroad without permission of the competent authority / Leave sanction, he ceases to be in Govt: employee.

*HC*  
*Discuss*  
*9/11/14*  
*27/12*

9145/S-E  
9/11/2014

*[Signature]*  
SUPERINTENDING ENGINEER,

*ARK ctc*  
**Said Muhammad Durran**  
**Advocate High Court**

To,

(Handwritten signature)

The Chief Engineer  
C & W. North KPK.

(Handwritten marks: scribbles, '40', and 'D')

DEPARTMENTAL APPEAL AGAINST THE REMOVAL ORDER NO. 1396/4-E.  
DATED: 26-12-2013 FROM SERVICES AS DRR CLEANER.

Respected Sir,

1. That I filed a Service Appeal No. 701+P/2018, before the services Tribunal Peshawar regarding the release of the withheld salaries against the department.
2. That astonishingly in the Reply/Comments the respondents have annexed an illegal order of Removal/Termination from services against me and such order has never been communicated to me and through the instant reply got knowledge of the same. (Removal/Termination Order is attached)
3. That the fake order of termination on dated 26/12/2103 against me in which I was ceased to be a Govt. servant while on another side I was transferred to the office of the Deputy Commissioner Malakand vide office order No.240/3-E, Dated 08/12/2014.
4. That after appointing as a DRR cleaner, I was performing my duty with great honesty and was later on promoted to BPS-04 by the Finance department vide office order No. KC/FD/SO FR/7-20/2015. Dated 17/08-2015. (Copy of the post upgraded letter is attached).
5. That no charge sheet and statement of allegations or final show cause notice was issued against me.
6. That no fair and impartial inquiry was constituted against me in order to substantiate the guilt or otherwise regarding the allegations leveled against me.

(Handwritten signature) ctc  
Said Muhammad Durrani  
Advocate High Court

40


41

Prayer:

It is therefore requested that by acceptance of this Departmental Appeal an appropriate order may please be issued declaring the office order No.1396/4-E, Dated: 26/12/2014 whereby a major penalty of Removal/Termination from services was issued is illegal, unlawful without lawful authority, and of no legal effect and the same is liable to strike down and kindly Re instant me in services with all arrears and back benefits or any other remedy deemed proper may also be allowed in my favor.

Dated: 01/06/2022


Appellant



Rehmat Gul S/O Said Gul

Mobile: 03423589256

03429640498



Said Muhammad Durrani  
Advocate High Court



**OFFICE OF THE SUPERINTENDING ENGINEER  
C&W CIRCLE MALAKAND AT BATKHELA**

E-Mail: secirclemkd@gmail.com.

NO. 1581 12-KE, Dated: 27 / 07 / 2022

To,

The Executive Engineer,  
C&W Division, Malakand.

**Subject: DEPARTMENTAL APPEAL AGAINST THE REMOVAL  
ORDER NO.1396/4-E DATED 26/12/2013 FROM  
SERVICE AS DRR CLEANER.**

\*\*\*\*\*

With reference to the Chief Engineer North C&W Department at Saidu Sharif Swat letter No.160/4-E, dated: 20/07/2022 on the captioned subject which is already addressed to you, to do the needful at your end at earliest.

It is further added that you were already directed vide this office letter No.820/ 2-KE, dated 10.06.2022 to provide a detailed report and relevant record but despite of lapse of time you did not submit any reply to this office.

*[Signature]*  
SUPERINTENDING ENGINEER

Copy forwarded for information to Chief Engineer (North) C&W Department at Saidu Sharif Swat with reference to his letter No. quoted above.

SUPERINTENDING ENGINEER

*[Signature]*  
Said Muhammad Durram  
Advocate High Court



OFFICE OF THE CHIEF ENGINEER (NORTH),  
C&W DEPARTMENT SWAT AT SAIDU SHARIF

Ph# 0946-920006,

No. 160 14-E,

Dated. 20 / 07 / 2022.

To

The Executive Engineer,  
C&W Division Malakand.

SUBJECT:- DEPARTMENTAL APPEAL AGAINST THE REMOVAL ORDER NO.1396/4-E  
DATED 26/12/2013 FROM SERVICE AS DRR CLEANER

The subject Departmental Appeal submitted by Mr.Rehmat Gul S/O Said Gul Resident of Banjo Banda Tehsil Batkhela District Malakand is sent herewith, with the direction to submit para-wise replies of the appeal to this office within a week time positively in order to proceed further in the matter. Moreover, original Service Book alongwith arrival report may also be furnished to this office for scrutiny/ perusal.

DA/As above.

(Engr. Muhammad Tariq)  
CHIEF ENGINEER (NORTH)

✓  
Copy forwarded to:-

1. The Superintending Engineer C&W Circle Malakand for information and necessary action.

*M Tariq*  
CHIEF ENGINEER (NORTH)

DNO-968 / 2-WE  
25-07-22

Said Muhammad Durrani  
Advocate High Court

KEN MKK  
You were already  
directed vide T/O  
letter No \_\_\_\_\_ dated \_\_\_\_\_



OFFICE OF THE CHIEF ENGINEER (NORTH),  
C&W DEPARTMENT SWAT AT SAIDU SHARIF.

Ph# 0946-920006,

No. 160/14-E Dated. 20/07/2022.

To

The Executive Engineer,  
C&W Division Malakand.

SUBJECT:- DEPARTMENTAL APPEAL AGAINST THE REMOVAL ORDER NO.1396/4-E  
DATED 26/12/2013 FROM SERVICE AS DRR CLEANER

The subject Departmental Appeal submitted by Mr.Rehmat Gul S/O Said Gul Resident of Banjo Banda Tehsil Batkhela District Malakand is sent herewith, with the direction to submit para-wise replies of the appeal to this office within a week time positively in order to proceed further in the matter. Moreover, original Service Book alongwith arrival report may also be furnished to this office for scrutiny/ perusal.

DA/As above.

(Engr. Muhammad Tariq)  
CHIEF ENGINEER (NORTH)

Copy forwarded to:-

1. The Superintending Engineer C&W Circle Malakand for information and necessary action.

CHIEF ENGINEER (NORTH)

Said Muhammad Durran  
Advocate High Court

45

۴

دکٹر صاحب - ڈی سی ضلع / ملائند سول سروس عوام مارالند

دو نو اسٹریٹ محمد طرزہ عمور

صاحب عالی

موسسات زارتش ہے۔ کہ سائل / ڈی سی سول سروس عوام  
ملازم ہے۔ اس کے لئے / ڈی سی سول سروس عوام  
رڈ نمبر ڈیوی انجمن ڈیوی ہے۔

صاحب عالی - اب / ڈی سی سول سروس عوام  
کا سٹوڈنٹ بن گیا ہے۔ اس کے لئے / ڈی سی سول سروس عوام  
کے بارے میں / ڈی سی سول سروس عوام کے ساتھ  
بند نامہ ڈیوی / ڈی سی سول سروس عوام

10/2/21

لکھو

سید محمد رفیق / ڈی سی سول سروس عوام

Said Muhammad Durram  
Advocate High Court

kindly release the salary

XEN e/w

Deputy Commissioner  
Malakand  
DCCM,



Recognized by The K.P.K Government of Pakistan

46

پی ڈی ایو ڈی ایس بیو یونین رجسٹریشن نمبر 43 ملاکڑ سب کمیٹی

P.W.D Labour Union K.P.K

گل زمین خان

Reg: No: 43 C.B.A

12  
68623

PAKISTAN WORKER FEDERATION  
Head Office: C & W Colony Kandako District Malakand

0333-0287000  
0333-0287000

Date: 11-5-2015

11.5.15 / S.L.U.P

خدمت جناب چیف انجینئر نارنگھری اینڈ ڈبلیو ڈی پارٹمنٹ خیبر پختونخواہ (پشاور)

عنوان: رد و رکنیز کی درخواستیں جاری کرنے کا حکم

جناب والا!

گزارش ہے کہ رحمت گل کو بحوالہ حکم نمبر 438 مورخہ 26-9-2012 کو بحیثیت رکنیز  
DDR ایسٹبلمنٹس کوٹہ میں بحالی ہوئی۔  
یہ کہ رحمت گل کی بعض وجوہات پر حکم نے تخواہ بند کر دی ہے رحمت گل آج بھی DC روڈ  
ملاکڑ پرایمانداری کے ساتھ ڈیوٹی سرانجام دے رہا ہے۔  
یہ کہ آپ صاحب سے درخواست ہے کہ رحمت گل ولد سید گل (رکنیز) کی تخواہ دینے کے لئے  
XEN ملاکڑ کو ہدایت جاری کر کے مشکور رہا میں۔

عزیز  
آپ کا دعا گو گل زمین

صدر PWD ایسٹبلمنٹس ملاکڑ ایسٹبلمنٹس پختونخواہ

11/5/2015  
A 0

Furnish copies to XEN C&W  
Malakand to examine and  
report factual position within  
03 days.

11/3/2015  
E.C.A.

Said Muhammad Durand  
Advocate High Court

47

بخدمت جناب A/C صاحب سی اینڈ ڈبلیو ڈی پارٹنٹ گل کدہ ضلع سوات

عنوان: دائرہ قضیہ کی بند تخواہیں دا گزار کرنے کا حکم جاری کریں

جناب عالی! حسب ذیل عرض ہے کہ۔۔

- (۱) یہ کہ سائل رحمت گل کو بحوالہ حکم نمبر 438 مورخہ 26/9/2012 کو بحیثیت کلینر IDDR-پلیٹا سڑک کوٹ میں بھرتی ہوا تھا۔
- (۲) یہ کہ سائل رحمت گل آج بھی DC روڈ ملاکنڈ اپنی ڈیوٹی پوری ایمانداری سے سرانجام دے رہا ہے۔
- (۳) یہ کہ آپ صاحبان جناب XEN صاحب ہدایت جاری کریں۔ کہ وہ کلرک C&W کو بذریعہ بل سسی نصیب گل کے طماتیار کریں۔ تو محکمہ خزانہ کو کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ڈالے گا۔
- (۴) یہ جناب چیف انجینئر صاحب کی چھٹی جو کہ نصف ہذا اس کی روشنی میں سائل کی تخواہیں ادا کریں۔ اور جناب XEN صاحب مطلع کریں۔ کہ وہ آپ صاحبان کی رپورٹ کریں تاکہ سائل رحمت گل کے ساتھ ایسا ہیٹیر جاری کریں۔
- (۵) یہ کہ گل آمین صدر PWD بیروین کا کنٹریکٹر ڈویژن خیبر پختونخواہ نے اس نسبت جناب کو کوئی درخواست دی ہے۔
- (۶) یہ کہ جناب ہیڈ کلرک کو جناب ایکسی این صاحب نے حکم دیا کہ تین دن کے اندر اندر رپورٹ تیار کریں مگر ہیڈ کلرک نے کوئی کارروائی نہیں کی ہے۔

لہذا آپ صاحبان سے درخواست ہذا عرض رساں ہے کہ سائل رحمت گل کی تخواہ ادا کریں۔

Said Muhammad Durram  
Advocate High Court

03429640498

موبائل نمبر۔

رحمت گل ولد سید گل

کارڈ نمبر۔ 15402-244 2270

XEN CFW  
to resolve the issue as requested.  
by the applicant in view of previous  
need. In law  
Superintending Engineer,  
C&W Circle Swat

xen sahib  
pe help hai

H.C  
ATTESTED  
XEN of Swat  
to look into the  
matter and  
accordingly  
26/2



CHIEF ENGINEER (NORTH)  
COMMUNICATION & WORKS DEPARTMENT  
SAIDU SHARIF SWAT

No. 750/4-E

Dated: 23/06/2023

68

To

The Superintending Engineer,  
C&W Circle Malakand.

Subject: APPLICATION.

I am directed to refer and enclosed an application received from Mr. Rahmat Gul S/O Said Gul resident of Malakand Division Class-IV Cleaner requesting therein for issuance of his pay and allowances, which is self-explanatory. It is submitted that an appropriate action may be taken as per rules/policy under intimation to this office.

Administrative Officer

Copy is forwarded to the:-

1. Executive Engineer C&W Division Malakand for information and similar necessary action please.
2. PA to Chief Engineer (North) Local.
3. Mr. Rahmat Gul S/O Said Gul resident of Malakand Division Class-IV Cleaner.




Administrative Officer

ctc

Rs. 20/-

نوٹ اس کالت ہانس کی ڈوکائی، ۵۵ مل ڈول ہوگی۔

(74)

بار کونسل نمبر: <u>bc-11-2332</u>	 	سرٹیفکٹ نمبر: <u>122275</u>
بار ایسوسی ایشن نمبر: _____		
رابطہ نمبر: <u>0333-9483696</u>	<b>ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن سوات</b>	
ای میل ایڈریس: _____		

بعدالت جناب: مسٹر وس مٹریونیل حیدر پنجتون کو اعلان بستہ اور

منجانب: <u>آبیدار</u>	دعویٰ اور خواست: <u>سروس ایپل</u>
<u>رحمت علی</u> بنام <u>مسٹر سندھ منٹا</u> <u>الحجروہ</u>	علت نمبر: _____
	مورخہ: _____
	جرم: _____
	تھانہ: _____

**باعث تحریر آگہ**

مقدمہ مندرجہ عنوان بالا میں اپنی طرف سے برائے پیروی مقدمہ

Said Muhammad Durrant  
Advocate High Court

آن مقام محکمہ مال کیلئے کو مقرر کر کے اقرار کیا جاتا ہے، کہ صاحب موصوف کو مقدمہ کی کل کاروائی کو کامل اختیار ہوگا، نیز وکیل صاحب کو راضی نامہ کرنے و تقرر ثالث کرنے، دعویٰ، جواب دعویٰ، اقبال دعویٰ اور درخواست برائے سرسزگی مقدمہ، منسوخی ڈگری یکطرفہ، اجراء و پیروی کرنے کا مختار ہوگا۔ نیز دائر کرنے اپیل نگرانی، نظر ثانی و پیروی کرنے کا مختار ہوگا۔ اور مقدمہ مذکورہ کیلئے کل وقتی یا جزوی کاروائی کیلئے کسی دیگر وکیل یا مختار قانون کو اپنے ہمراہ یا اپنے بجائے تقرر کا اختیار ہوگا اور صاحب مقرر شدہ کو بھی جملہ مذکورہ اختیارات حاصل ہوں گے، اور اس کا ساختہ و پرداختہ منظور قبول ہوگا، بدوران مقدمہ جو خرچہ و ہرجانہ کسی بھی سبب سے حاصل ہوگا، وہ وکیل موصوف وصول کرنے کا حقدار ہوگا، کوئی تاریخ پیشی مقام مذکورہ بالا سے باہر ہو، تو وکیل صاحب پیروی مقدمہ کرنے کے پابند نہ ہوں گے، مقدمہ کسی عدالت میں بعدم پیروی خارج ہونے یا ڈگری یکطرفہ ہونے کے صورت میں وکیل صاحب ذمہ دار نہیں ہوں گے، لہذا کالت نامہ لکھ دیا کہ سند رہے

رحمت علی

آبیدار  
رحمت علی  
CA 15400-2442270-5

مقام سندھ عدالت مال کے لئے منظور ہے۔

\_\_\_\_\_  
ایڈووکیٹ دستخط:

الرقوم: 3-07-2023